



گورنر KATHY HOCHUL

فوری ریلیز کے لیے: 2023/26/5

گورنر HOCHUL نے میموریل ڈے ویک اینڈ سے قبل ریاست کے ساحلوں پر آنے والے سیاحوں کا خیر مقدم کرتے ہوئے انہیں اور نیو یارک باسیوں کو شارک سے حفاظت کے جاری سیفٹی پروٹوکولز کے بارے میں اپ ڈیٹ کیا ہے

میموریل ڈے ویک اینڈ پر پوری ریاست میں تیراکی کی سہولیات کھول دی گئیں ہیں تاکہ نیویارک میں رہنے والے انہیں استعمال کریں اور لطف اندوز ہوں

شارک نظر آنے کے حالیہ واقعات کے تناظر میں گورنر نے نیو یارک کے شہریوں کی حفاظت کے لئے نگرانی اور حفاظت کے پروٹوکولز میں اضافہ کر دیا ہے۔

گورنر Kathy Hochul نے آج نیویارک کے شہریوں اور ہمسایہ ریاستوں سے آنے والے سیاحوں کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ میموریل ڈے ویک اینڈ پر نیو یارک بھر میں ریاستی پارکوں، ساحلوں، ٹریلوں اور تاریخی مقامات سے محفوظ طریقے سے لطف اندوز ہوں۔ بہت سے ریاستی پارکس کے ساحل اس سیزن میں پہلی بار کھلیں گے اور ہفتہ اور اتوار کو جونز بیچ پر سالانہ Bethpage Air Show کا انعقاد کیا جا رہا ہے؛ گورنر Hochul نے نیویارک کے شہریوں کو سمندر کے قریب مناسب حفاظتی احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کی ترغیب دی ہے جس میں شارکس اور دیگر خطرناک سمندری حیات سے محفوظ رہنے کے اقدامات کرنا بھی شامل ہے۔

"نیو یارک میں مشرقی سمندر کے کنارے بعض سب سے بہترین ساحل ہیں اور یہ ویک اینڈ گھر سے باہر نکلنے اور ہماری ریاست کی قدرتی شان و شوکت سے لطف اندوز ہونے کا بہترین وقت ہے،" گورنر Hochul نے کہا۔ "اب جبکہ ہم طویل ویک اینڈ منا رہے ہیں تو یہ بہت ضروری ہے کہ نیویارک کے باشندے شارک کے خطرے سے ہوشیار رہیں اور سمندر میں حفاظت کے بہترین طریقوں کو یاد رکھیں، تاکہ یہ موسم گرما کا ہم سب کے لئے محفوظ، باعثِ تفریح، اور خوشگوار ہو۔ میں نیویارک کے ہر شہری کی حوصلہ افزائی کرتی ہوں کہ وہ اس ویک اینڈ پر باہر نکلیں، ریاستی پارکوں کا دورہ کریں، اور دوستوں اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ فطرت کے خوبصورت نظاروں سے لطف اٹھائیں۔"

پوری ریاست میں بہت سے ریاستی تیراکی والے ساحل اور پول اس میموریل ڈے ویک اینڈ پر کھلے رہیں گے۔ کھانے کے اوقات ہر پارک کی مناسبت سے الگ ہیں۔ براہ کرم پارکوں، تفریح گاہوں اور تاریخی مقامات کے دفتر کی ویب سائٹ [یہاں](#) ملاحظہ کر کے اپنے پارک کا سٹیٹس چیک کریں۔ ان میں سے زیادہ تر جون کے وسط تک ویک اینڈز پر کھلے رہیں گے۔ مندرجہ ذیل مقامات اس ویک اینڈ پر کھلے رہیں گے۔

لانگ آئی لینڈ

- جونز بیچ
- رابرٹ موزیز
- بیتھر بلز
- اسکن میڈو

نیو یارک سٹی

- گائٹری پلازہ (مسٹ فائونٹین)
- ریور بینک (پول عمومی اوقات میں کھلا رہے گا)
- مڈہڈسن
- جھیل تاگانک
- جھیل تیوراتی بیچ
- جھیل لیک بیچ
- راک لینڈ جھیل
- کیپیٹل ڈسٹرکٹ
- گرافٹن جھیلیں
- موریو جھیل
- تھامسنز جھیل
- ٹیکونک SP
- موؤبوک ویلی
- ڈبلیو جھیل
- گلیمر گلاس
- گلبرٹ جھیل
- ویرونا بیچ
- جنوبی سلسلہ
- چینانگو وادی
- سینٹرل
- گرین جھیلیں
- فیئر بیون
- فنگر لیکس
- سینیکا جھیل سپرے گراؤنڈ
- مغربی نیو یارک
- بیور آئیلینڈ
- ووڈ لان

آنے سے قبل کال کر کے تصدیق کر لیں کیونکہ موسم اور دیگر وجوہات کی بنا پر تیراکی سہولیات کی دستیابی تبدیل ہو سکتی ہے۔

لانگ آئی لینڈ کے ساحلوں کے قریب شارک نظر آنے کے واقعات میں اضافے کے ساتھ، نیویارک باسیوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ اس [شارک سے حفاظت کی ہدایات پر عمل کریں](#):

- سیلز (اود بلاؤ) والے علاقوں میں جانے سے گریز کریں۔
- ان علاقوں میں جانے سے گریز کریں جہاں مچھلیوں کے جھنڈ ہوں، اچھانے والی مچھلیاں ہوں، یا غوطہ لگانے والے سمندری پرندے ہوں۔
- شام ڈھلے، رات، یا سورج نکلنے کے وقت تیراکی کرنے سے گریز کریں۔
- گدلے پانی میں جانے سے گریز کریں۔
- تیراکی، پیڈلنگ اور سرفنگ گروہوں کی شکل میں کریں۔
- ساحل کے اتنا قریب رہیں جہاں آپ کے پاؤں نیچے زمین کو چھو سکتے ہوں۔
- ہمیشہ لائف گارڈز اور پارک کے عملے کی ہدایات پر عمل کریں۔

گزشتہ ہفتے، گورنر Hochul نے [اعلان کیا تھا](#) کہ ریاستی پارکوں نے اس موسم گرما میں نگرانی کے اضافی اقدامات اور سہولیات کا نفاذ کیا ہے جس میں سیاحوں شارک کے اتنے قریب جانے سے روکنا بھی شامل ہے جس سے شارک انہیں نقصان پہنچا سکے:

- اضافی دس ڈرونز شامل کرنے سے اس وقت کام کرنے والے آٹھ ڈرونز کی تعداد سے دوگنی سے زیادہ ہو جائے گی۔
- پارک کی پولیس کو تفویض کردہ ایک نیا ڈرون، ایک بڑا انٹرپرائز ڈرون ہے جس میں تھرمل امیجنگ، لیزر رینج کی تلاش، اور اعلیٰ معیار کے کیمرے موجود ہیں جو رات کے وقت نگرانی اور موسم کی خراب صورتحال میں گشت کرنا ممکن بناتے ہیں۔ یہ ڈرون کسی ہنگامی صورتحال میں تیرنے میں مدد دینے والی ذاتی ڈیوائسز بھی پھینک سکتا ہے۔
- فی الحال پارک پولیس افسران، ریاستی پارک کے آپریشنل عملے، لائف گارڈز اور مصدقہ ڈرون آپریٹرز سمیت، 21 افراد پر مشتمل عملہ تربیت یافتہ ہے۔ عملے کے مزید 12 ارکان کو 4 جولائی والے ویک اینڈ تک تربیت دے دی جائے گی۔
- اس موسم گرما میں جونز بیچ، رابرٹ موزیز، اور سنکن میڈو پر لوگوں میں شارک کے رہنے کی جگہوں کے بارے میں آگاہی پیدا کرنے کے لیے ریاستی پارکس کے ماحولیاتی اساتذہ بھی موجود رہیں گے۔
- دو نئے یاماہا ویو رنرز (WaveRunners)، لائف گارڈز کے لیے تفویض کیے گئے ہیں تاکہ وہ جونز بیچ اور رابرٹ موزیز ریاستی پارکس دونوں پر گشت کریں۔ یہ دو ذاتی واٹر کرافٹس اس ایک میں شامل ہو جائیں گے جو پہلے ہی سنکن میڈو اسٹیٹ پارک میں کام کر رہا ہے۔
- تیراکی کے علاقوں اور سرف فشنگ والے علاقوں کے درمیان اضافی بفر زونز بنائے جائیں گے۔
- جب شارک نظر آنے کی اطلاع ملے، تو New York State Police Aviation ضرورت کے مطابق جوابی اقدام کرنے کے لئے دستیاب ہوگی۔

تمام ساحلوں، پولز اور آبی ذخائر میں محفوظ طریقے سے تیراکی کے لئے اضافی تجاویز میں مندرجہ ذیل شامل ہیں:

- ہوشیار رہیں۔
- یقینی بنائیں کہ آپ کے گروپ میں ہر شخص تیرنا جانتا ہو۔
- تیراکی کے لباس کے لئے بھڑکیلے رنگوں کا انتخاب کریں۔ تہہ کے ہلکے رنگ والے پولز میں نیون گلابی اور نیون نارنجی رنگ سب سے زیادہ دکھائی دیتے ہیں۔ جھیلوں اور گہرے پولز میں نیون نارنجی، نیون سبز، اور نیون پیلا رنگ سب سے زیادہ نظر آتے ہیں۔
- CPR سیکھنے کی کوشش کریں۔ ہنگامی صورت حال میں، ہر سیکنڈ اہم ہوتا ہے۔ حالات سے آگاہ رہیں۔
- سمندر میں تیراکی کرنا سوئمنگ پول میں تیراکی کرنے سے بہت ہوتا مختلف ہے، لہذا طاقتور لہروں، مضبوط جعگڑوں، اور اچانک گرنے جیسی صورتحال کے لیے ہم وقت تیار رہیں۔
- ریپ کرنٹس عام طور پر پانی میں کسی اٹھلے مقام کے قریب تشکیل پاتے ہیں، اور کسی بھی ایسے ساحل پر بن سکتے ہیں جہاں لہریں آ کر ٹوٹتی ہیں، بشمول گرین لیکس۔ اگر آپ ریپ کرنٹ میں پھنس گئے ہیں تو پرسکون رہنے کی کوشش کریں اور اس سے لڑیں نہیں۔ ساحل کے متوازی تیراکی کریں جب تک کہ آپ کرنٹ سے باہر نہ ہو جائیں، اور اگر آپ تھکنے لگیں تو پانی میں تیریں یا چلیں۔
- پانی کے کنارے سے دور رہیں۔ جھلسی ہوئی، پھسلن والی چٹانیں اور آلودہ پانی خطرناک ثابت ہوسکتے ہیں۔
- قواعد و ضوابط سے آگاہ رہیں۔
- صرف مقررہ علاقوں میں تیراکی کریں، اور وہ بھی صرف اس وقت جب کوئی لائف گارڈ ڈیوٹی پر ہو۔ تیراکی کے لئے ممنوعہ علاقوں میں اکثر خطرات ہوتے ہیں مثلاً زیر آب لہریں، شدید سردی، اور بہت زیادہ مختلف گہرائیوں والی جگہیں۔ یہ خطرات اچھے تیراکوں کو بھی خطرے میں ڈال سکتے ہیں۔
- زیادہ سے زیادہ نگاہ میں رہنے کے لئے لائف گارڈ کے قریب والی تیراکی کی جگہ کا انتخاب کریں۔ ہمیشہ ان کی ہدایات پر عمل کریں اور یہ امر یقینی بنائیں کہ آپ کے ساتھ جو بچے تیراکی کر رہے ہیں وہ بھی ہدایات پر عمل کریں۔
- متنبہ کرنے والے جھنڈوں پر نظر رکھیں اور سیکھیں کہ ان کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ سبز جھنڈے عام طور پر نامزد تیراکی کے علاقوں کو نشان زد کرتے ہیں - سبز جھنڈوں کے درمیان تیرنا یقینی

